



## سلطانز کو شکست دے کر قلندرز نے سیمی فائنل میں جگہ بنالی

لاہور، 15 مارچ 2020ء :

لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنالی ہے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی تاریخ میں لاہور قلندرز نے پہلی مرتبہ ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں کوالیفائی کیا ہے۔

ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے بعد لاہور قلندرز ایونٹ کے سیمی فائنل راؤنڈ میں جگہ بنانے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میچز 17 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے 187 رنز کا ہدف 7 گیندیں قبل 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے اوپنر کرس لین 113 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر ناٹ آؤٹ رہے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کپتان شان مسعود کے 42 اور روی بوپارہ کے 33 رنز کے باوجود ملتان سلطانز کی آدھی ٹیم 91 کے مجموعی اسکور پر پولین واپس لوٹ گئی۔ معین علی 1، نیشان اشرف 2 اور اسد شفیق 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

چھٹی وکٹ کی شراکت میں مٹل آرڈر بلے باز خوشدل شاہ نے روحیل نذیر کے ہمراہ جارحانہ انداز اپنایا۔ میچ کا پہلا چھکا اننگز کے 15 ویں اوور میں روحیل نذیر نے لگایا۔ جس کے بعد خوشدل شاہ نے دھواں دھار بلے بازی کرتے ہوئے 6 چھکے اور 5 چوکے جڑے۔ 22 گیندوں پر نصف سنچری مکمل کرنے والے خوشدل شاہ نے 29 گیندوں پر 70 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

روحیل نذیر 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 74 رنز کی شراکت محض 37 گیندوں پر بنی۔ ملتان سلطانز نے مقررہ بیس اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ بلاول بھٹی 1 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

شاہین شاہ آفریدی اور ڈیوڈ ویزے نے 2،2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں فخر زمان اور کرس لین نے اننگز کا دھواں دھار آغاز کیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ابتدائی 6 اوورز میں 72 رنز بٹورے۔ میچ کے ساتویں اوور میں فخر زمان نے 25 گیندوں پر نصف سنچری مکمل کی۔ دونوں کھلاڑیوں نے 54 گیندوں پر 100 رنز کی شراکت قائم کر کے لاہور قلندرز کی میچ میں گرفت مضبوط کر دی۔ بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

ادھر کریز کے دوسرے اینڈ پر موجود کرس لین نے 22 گیندوں پر نصف سنچری مکمل کرنے کے باوجود ذمہ دارانہ بیٹنگ جاری رکھی اور وہ میدان میں دلکش اسٹروکس کھیلتے رہے۔ کرس لین نے میچ میں ناقابل شکست سنچری بنائی۔ 52 گیندوں پر سنچری کرنے والے کرس لین 12 چوکوں اور 8 چھکوں کی بدولت 113 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ یہ ٹی ٹونٹی کیریئر میں ان کی بہترین اننگز ہے۔

کرس لین کی یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں پہلی اور مجموعی طور پر دوسری ٹی ٹونٹی سنچری ہے۔ سہیل اختر 19 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ لاہور قلندرز نے مطلوبہ ہدف 7 گیندیں قبل 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

ملتان سلطانز کی جانب سے واحد وکٹ عثمان قادر نے حاصل کی۔

میچ میں سنچری اسکور کرنے پر کرس لین کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کا آخری گروپ میچ آج شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا، جہاں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیمیں مدمقابل آئیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

Partners



[www.psl-t20.com](http://www.psl-t20.com) ●  
@thePSLT20 ●  
@thePSL ●  
PakistanSuperLeague ●  
@thePSL ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium,  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4